



کووڈ-19 کے ردعمل میں برامپٹن سٹی ہال اور سہولت گاہوں کی بندش میں تاحکم ثانی توسیع کر دی گئی ہے

برامپٹن، آن (27 مارچ 2020) – پبلک ہیلتھ کی جانب سے ہدایت کے ساتھ اور اپنے رہائشیوں اور ملازمین کی حفاظت کے لیے، کووڈ-19 (کووڈ-19) کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دینے کے لیے سٹی ہال اور سٹی آف برامپٹن کی دیگر تمام سہولت گاہیں بند رہیں گی۔

سٹی کی سہولت گاہوں کی بندش

سٹی کی تمام سہولت گاہیں، بشمول سٹی ہال، تفریحی اور کمیونٹی سنٹرز اور برامپٹن لائبریری کی شاخیں تاحکم ثانی بند رہیں گی۔

سٹی ہال میں 24 گھنٹے کی لابی (ایلیویٹر، پارکنگ ٹکٹ مشین اور چیک ڈراپ باکس کے قریب) کھلی رہے گی اور اس کی کثرت سے نگرانی کی جاتی رہے گی۔

سٹی کی جانب سے منعقد کی جانے والی تقریبات

سٹی کی جانب سے منعقد کی جانے والی تمام تقریبات تاحکم ثانی منسوخ کی جاتی ہیں۔ سٹی کی سہولت گاہوں میں کمیونٹی کی جانب سے منعقد کی جانے والی تمام تقریبات بھی تاحکم ثانی منسوخ ہیں۔

تفریحی پروگرام

تمام تفریحی پروگرام اور پروگراموں کے لیے کرایہ پر دی جانے والی سہولت گاہیں بھی تاحکم ثانی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ کریڈٹس کو خودکار طریقے سے اکاؤنٹس میں ڈال دیا جائے گا۔ براہ کرم مزید معلومات کے لیے reconnects@brampton.ca پر رابطہ کریں۔

دی روز برامپٹن

سٹی آف برامپٹن کی فنون کے مظاہروں والی تمام جگہوں پر طے شدہ تمام تقریبات منسوخ یا مؤخر شدہ ہیں۔ اس کے علاوہ، دی روز پریزیڈنٹس 2019-2020 سیزن کے بقیہ حصے، بشمول مٹی میں ہونے والے فنون کے مظاہرے، بھی منسوخ یا مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ فنون کے مظاہروں والی تمام جگہوں کو بھی تاحکم ثانی عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔

مزید معلومات کے لیے، براہ کرم www.therosebrampton.ca ملاحظہ کریں یا باکس آفس سے boxoffice@brampton.ca پر رابطہ کریں۔

بنیادی خدمات

تمام بنیادی خدمات، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، برامپٹن ٹرانزٹ، ٹریفک سروسز، بائی لاء انفورسمنٹ، روڈ آپریشنز، POA کورٹس اور سیکورٹی سروسز، ہماری کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے معمول کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گی۔

برامپٹن اینیمل شیلٹر عوام کے لیے بند ہے اور گود لینے اور واپس حاصل کرنے کا عمل صرف اپوائنٹمنٹ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔

عدالتی انتظامیہ کے سپروائزرز قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی جانب سے قانونی دورانیہ وقت کے مطابق مقدمات کے اندراج کو قبول کرنے کے لیے روزانہ محدود گھنٹوں کے لیے کام کریں گے۔ اس مقصد کے لیے سہولت گاہ کے مرکزی داخلی راستے پر ایک ڈراپ باکس دستیاب ہے۔ اگر ضرورت ہو، تو یہ عوام کی جانب سے اندراج کے لیے دستیاب ہے۔



اپنے ملازمین اور رہائشیوں کی صحت کی حفاظت کے لیے، سٹی نے بسوں، سہولت گاہوں اور ٹرمینلز میں ٹھوس سطحوں اور سیٹوں کو صاف کرنے اور جراثیم سے پاک کرنے کے عمل کی شرح بڑھا دی ہے۔

کووڈ-19 کے ردعمل میں ہنگامی حالت کا اعلان

24 مارچ 2020 کو سٹی کونسل کے ساتھ مشاورت کے بعد اور سٹی کی ایمرجنسی مینجمنٹ ٹیم کی سفارش پر، میئر پیٹرک براؤن نے سٹی کے ایمرجنسی مینجمنٹ پلان کے تحت سٹی آف برامپٹن میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان سٹی کو کووڈ-19 کے اثرات کو روکنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہوئے زیادہ لچک اور رفتار فراہم کر کے ہنگامی ردعمل کی موجودہ کوششوں میں معاونت فراہم کرے گا۔

سٹی آف برامپٹن کورونا وائرس کو نہایت سنجیدہ سمجھتا ہے اور پیل پبلک ہیلتھ کی ہدایات و تجاویز پر سختی سے عمل درآمد جاری رکھے گا۔ بالکل تازہ ترین معلومات www.peelregion.ca/coronavirus پر دستیاب ہے۔ سٹی اس صورتحال کی نگرانی جاری رکھے گا اور مزید معلومات دستیاب ہوتے ہی فراہم کرتا رہے گا۔ اپ ڈیٹس کے لیے، براہ کرم www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں۔

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca